

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
نئی دہلی
پریس ریلیز
6 اکتوبر 2020

ہندوستانی شہروں کے تناظر میں شہری علاقوں کا تصور کے عنوان پر معروف ماہر عمرانیات
ساسکیہ ساسین کا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں توسیعی خطبہ

منصوبہ سازوں اور شہریوں کو بڑے شہروں کی بجائے جامع شہروں پر توجہ دینی چاہئے :
ساسکیہ ساسین

جامعہ ملیہ اسلامیہ فیکلٹی آف آرکیٹیکچر اینڈ ایکسٹکس ، نے ایک (آن لائن) توسیع لیکچر کا انعقاد
کیا جس میں 01 اکتوبر 2020 کو کولمبیا یونیورسٹی ، نیو یارک ، امریکہ کے نامور ماہر عمرانیات
ساسکیہ ساسین نے ہندوستانی شہروں کے تناظر میں شہری علاقوں کا تصور کے موضوع پر اپنا
جامع خطبہ پیش کیا ۔

شیخ انتخاب عالم اسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر جامعہ ملیہ اسلامیہ نے سیشن کو
موڈریٹ کیا۔

ساسکیہ ساسین ایک ڈچ امریکی ماہر معاشیات ہیں جو عالمگیریت اور بین الاقوامی انسانی ہجرت کے
تجزیوں کے لئے مشہور ہیں۔ وہ کولمبیا یونیورسٹی اور لندن اسکول آف اکنامکس سے وابستہ ہیں۔
انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں جن کی بیس سے زائد زبانوں میں تراجم شائع ہو چکے ہیں ۔

محترمہ ساسکیہ ساسین نے اپنے خطبہ میں کہا منصوبہ سازوں اور شہریوں کو بڑے شہروں کی
بجائے جامع شہروں پر توجہ دینی چاہئے۔ انہوں نے شہر اور غربت، شہروں سے ہجرت وغیرہ پر
گفتگو کی ۔ انہوں نے کہا شہروں کو بسانے میں خصوصی طور پر معیشت کے بہتر وسائل اور
شہریوں کے بہتر رہائش کے امکانات پر توجہ دینی چاہئے ۔

پروفیسر حنا ضیا فیکلٹی آف آرکیٹیکچر اینڈ ایکسٹکس کی سربراہ نے یونیورسٹی کا تعارف کے ساتھ
اپنے افتتاحی گفتگو میں علاقائی علوم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔

پروفیسر جمال انصاری ، سابق ڈائریکٹر ، ایس پی اے نئی دہلی ، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وزٹنگ
پروفیسر کے کلمات تشکر کے ساتھ پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔

احمد عظیم
پی ار او-میڈیا کوآرڈینیٹر